

6744 - قبروں کی زیارت اور ان محفلوں میں شریک ہونا جن کے بارہ میں گمان کیا جاتا ہے کہ وہاں اولیاء کی روحوں حاضر ہوتی ہیں

سوال

قبروں کی زیارت اور وہاں نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے ؟

پاکستان میں سالانہ عرس نامی چیز کا اہتمام کیا جاتا ہے، کیا اس میں شریک ہونا جائز ہے ؟

اس میں شریک ہونے والے لوگ کہتے ہیں کہ فوت ہونے والا شخص اللہ کا ولی تھا، ممکن ہے وہ ہماری دعا اللہ تک پہنچا دے، اور نیک و صالح سے دعا کرنا زیادہ قبولیت کی باعث ہے، تو کیا آپ اس موضوع پر کچھ روشنی ڈال سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

1 - قبروں کی زیارت دو طرح کی ہے:

پہلی قسم:

شرعی طور پر مشروع اور مطلوب زیارت تو مردوں کے لیے دعائے استغفار اور ان کے لیے رحم کی دعا کرنے، اور موت اور آخرت کی یاد کرنے کے لیے کی جاتی ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

" قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ تمہیں آخرت یاد دلاتی ہے "

صحیح مسلم شریف حدیث نمبر (976).

اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی قبروں کی زیارت کیا کرتے تھے.

عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب بھی ان کی باری والی رات ہوتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصہ میں بقیع کی طرف نکل جاتے اور وہاں یہ دعا پڑھا کرتے تھے:

السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون ، غدا مؤجلون ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد

اے مومنوں کی قوم تم پر سلامتی ہو، اور جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا وہ تمہیں دے دیا گیا، اور یقیناً ہم بھی تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں، اے اللہ اہل بقيع الغرقد کو بخش دے "

صحیح مسلم شریف حدیث نمبر (974) .

دوسری قسم: بدعتی زیارت

بدعتی زیارت یہ ہے کہ قبروں والوں سے دعا کرنا، اور ان سے مدد طلب کرنا، یا ان کے لیے جانور ذبح کرنا، یا ان کے لیے نذر ماننا اور چڑھاوے چڑھانا، یہ سب کچھ منکر اور شرک اکبر ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی ملحق کیا جائے گا کہ وہ قبر کے پاس جا کر دعائیں کی جائیں اور وہاں نماز ادا کی جائے اور قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، یہ سب کچھ بدعت اور غیر مشروع ہے۔

2 - اور رہا مسئلہ قبروں کے پاس نماز ادا کرنے کا، اگر تو اس سے مراد نماز جنازہ ہے تو یہ جائز ہے اس میں کوئی ممانعت نہیں، اور اگر نماز جنازہ نہیں بلکہ فرضی اور نفلی عام نماز ہے تو یہ حرام اور ممنوع ہے۔

قبر پر نماز جنازہ کے جائز ہونے کی دلیل مندرجہ ذیل حدیث ہے:

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سیاہ مرد یا عورت مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی تو وہ مر گئی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق دریافت کیا تو صحابہ کرام نے عرض کیا وہ تو فوت ہو گیا ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

" تم نے مجھے کیوں نہ بتایا، مجھے اس کی قبر کا بتاؤ، یا فرمایا: اس عورت کی قبر کا بتاؤ، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر آئے اور نماز جنازہ ادا کی "

صحیح بخاری حدیث نمبر (446) صحیح مسلم حدیث نمبر (956) .

اور قبرستان میں نماز جنازہ کے علاوہ کوئی اور نماز جائز نہ ہونے کی دلیل:

1 - عائشہ اور عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیان کرتے ہیں کہ:

" جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر موت نازل ہوئی تو وہ اپنے چہرے پر ایک کپڑا ڈالنے لگے اور جب غشی کم ہوئی تو اپنا چہرہ ننگا کیا اور اسی حالت میں فرمانے لگے:

" اللہ تعالیٰ یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت کے انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا تھا"
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ڈرا رہے تھے جو انہوں نے کیا تھا۔

صحیح بخاری حدیث نمبر (425) صحیح مسلم حدیث نمبر (531)۔

ب۔ ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

" قبروں پر نہ بیٹھو اور نہ ہی ان کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرو"

صحیح مسلم حدیث نمبر (972)۔

3۔ اور ہر سال منائے جانے والے عرس کے متعلق گزارش یہ ہے کہ:

اگر اس میں کوئی عبادت کی جاتی ہے، یا وہاں شریک ہونے والے گمان کرتے ہیں کہ وہ اس طرح اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں، یا اس میں معاصی و گناہ اور منکرات کا ارتکاب کیا جاتا ہے، اور ڈھول باجا اور ناچ پایا جاتا ہے تو پھر وہاں شریک ہونا اور اس میں شرکت کرنا حرام اور ناجائز ہے۔

اور اگر یہ سب کچھ نہ بھی ہو تو پھر بھی وہاں نہ جائیں کیونکہ شرعی عید (عید الفطر اور عید الاضحی) کے علاوہ کوئی اور عید منانا حرام اور بدعت ہے، اور وہاں حاضر ہونے والوں کا یہ اعتقاد رکھنا کہ اس عرس میں ولی کی روح حاضر ہوتی ہے، یہ اعتقاد بھی حرام اور بدعت ہے، اور مستقبل میں یہ اعتقاد دین بن سکتا ہے۔

تو اس طرح لوگوں کے لیے فتنہ کا باعث بنے گا، لہذا اس کا انکار کرنا اور اس سے روکنا اور اس عرس میں حاضر نہ ہونا واجب ہے، اللہ تعالیٰ ہی سیدھا راہ دکھانے والا ہے۔

4۔ اور رہا مسئلہ کسی نیک اور صالح شخص سے اس کی زندگی میں دعا کروانا تو زندہ شخص سے دعا کروانا جائز ہے، کیونکہ اس کی نیکی کی بنا پر قبولیت کی امید کی جا سکتی ہے، اس کی دلیل مندرجہ ذیل حدیث ہے:

۱۔ عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اندھا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا:

اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ مجھے عافیت سے نوازے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اگر تم چاہو تو میں دعا کر دیتا ہوں، اور اگر چاہو تو اسے مؤخر کر دیتا اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔

اور ایک روایت میں ہے کہ:

" اور اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے "

تو وہ کہنے لگا: دعا کر دیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اچھی طرح وضوء کرنے کا حکم دیا اور پھر دو رکعتیں ادا کرے "

اسے امام احمد (138 / 4) اور ترمذی (569 / 5) اور ابن ماجہ (1 / 441) نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔

ب۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک شخص کھڑا ہو کر کہنے لگا: اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ اور بکریاں ہلاک ہو رہے ہیں، لہذا آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں بارش سے نوازے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیلائے اور دعا کی "

صحیح بخاری حدیث نمبر (890) صحیح مسلم حدیث نمبر (897)۔

5۔ اور جب نبی یا ولی فوت ہو جائے تو اس سے دعا مانگنی مشروع نہیں کیونکہ وہ دنیا سے منقطع ہو چکے ہیں، اور ایسا کرنا شرک کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اس میں امت کا کوئی صحابی جو اس امت کے صالح لوگ تھے اور ان کے بعد ان کی پیروی کرنے والا بھی داخل نہیں ہوا۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

اس سے بڑھ کر اور کون گمراہ اور ظالم ہو گا؟ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی دعا قبول نہیں کر سکتے، بلکہ ان کے پکارنے سے وہ تو بالکل بے خبر ہیں، اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو یہ ان کے دشمن بن جائیں گے، اور ان کی عبادت سے صاف انکار کر جائیں گے (الاحقاف (5 - 6)۔

شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں:

بندے سے مطلوب تو یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جس پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور قادر نہ ہو، مثلاً:

وہ اپنے مریض کی شفایابی آدمیوں یا جانوروں سے مانگتا پھرے، یا اپنے قرض کی ادائیگی غیر کسی متعین طرف کے، یا اپنے اہل و عیال اور اسے جو دنیاوی یا اخروی تکلیف ہے، یا دشمن پر غلبہ اور اس کے خلاف مدد، اور دل کی ہدایت و راہنمائی، اور گناہوں کی بخشش، یا جنت میں داخلہ، یا جہنم سے نجات یا تعلیم علم، یا قرآن مجید کی تعلیم، یا دل کی

اصلاح، اور اخلاق کو بہتر بنانا، اور تزکیہ نفس، یا اس طرح کے دوسرے امور، یہ سب ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے طلب کرنا جائز نہیں۔

اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ وہ کسی فرشتے یا نبی یا شیخ چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ یہ کہتا پھرے: میرے گناہ معاف کر دے، میرے دشمن کے خلاف میری مدد کر، اور نہ ہی یہ کہہ سکتا ہے: میرے مریض کو شفا دے، مجھے عافیت سے نواز، یا میرے اہل و عیال اور میرے جانوروں وغیرہ کو عافیت دے۔

اور جس نے بھی یہ سب کچھ مخلوق سے مانگا چاہے وہ کوئی بھی ہو تو وہ اپنے رب کے ساتھ شرك کرنے والوں میں سے ہے، اور یہ اسی جنس کے مشرکیں میں سے ہے جو فرشتوں اور انبیاء اور ان مجسموں کی پوجا کرنے والوں میں سے ہے جو انہوں نے ان کی شکلوں میں بنا رکھے تھے، اور نصاریٰ کی اسی دعا کی جنس میں سے ہے جو انہوں نے مسیح علیہ السلام اور ان کی والدہ کے ساتھ کی تھی۔

فرمان باری تعالیٰ ہے:

اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ بن مریم! کیا تو نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ معبود قرار دے لو! المائدة (116) .

اور ایک مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے:

ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنا لیا، اور مسیح بن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں صرف ایک اکیلے اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا، جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، وہ پاک ہے ان کے شریک مقرر کرنے سے التوبة (31) .

دیکھیں: مجموع الفتاویٰ (27 / 67 - 68) .

اور شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی کہنا ہے کہ:

اور جو کوئی شخص کسی نبی یا نیک اور صالح کی قبر پر جائے، یا جس قبر کے متعلق یہ اعتقاد رکھا جاتا ہے کہ وہ نبی یا نیک شخص کی قبر ہے، لیکن حقیقت میں وہ ایسے نہ ہو اور وہ اس قبر پر جا کر اس سے مانگے، اور اس سے مدد طلب کرے، تو اس کے تین درجے ہیں:

پہلا درجہ:

وہ شخص اس سے اپنی ضروریات طلب کرے، مثلاً اس سے سوال کرے کہ وہ اس کی یا اس کے جانوروں کی مرض

دور کر دے، یا اس کی قرض ادا کر دے، یا اس کے دشمن سے انتقام لے، یا اس کی جان اور اس کے اہل و عیال اور اس کے جانوروں کو عافیت میں رکھے، وغیرہ دوسرے امور جن پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور قادر نہیں تو یہ صریح شرک ہے، اور اس کے مرتکب کو توبہ کروائی جائے گی اگر تو وہ توبہ کر لے تو ٹھیک وگرنہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔

اور اگر وہ یہ کہے کہ میں تو اس سے اس لیے سوال کرتا ہوں کہ وہ مجھ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہے، تا کہ وہ ان معاملات میں میری سفارش کر دے کیونکہ میں تو اسے وسیلہ بنا رہا ہوں، جس طرح کسی بادشاہ اور حکمران کے سامنے وزیر اور مشیر کو وسیلہ بنایا جاتا ہے، تو یہ مشرکین اور نصاریٰ کے افعال میں شامل ہوتا ہے، کیونکہ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو سفارشی بنایا ہوا ہے جو ان کے مطالبات میں ان کی سفارش کرتے ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے متعلق خبر دیتے ہوئے فرمایا:

ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ (بزرگ) اللہ کے قرب تک ہمارے رسائی کرا دیں الزمر (3)۔

اور ایک مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا:

کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کو سفارشی مقرر کر رکھا ہے؟ آپ کہہ دیجئے! کہ اگر وہ کچھ اختیار نہ رکھتے ہوں، اور نہ ہی عقل رکھتے ہوں، کہہ دیجئے! کہ تمام سفارش کا مختار اللہ ہی ہے، تمام آسمانوں اور زمین کا راج اسی کے لیے ہے، تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے الزمر (43 - 44)

اور ایک مقام پر ارشاد ربانی کچھ اس طرح ہے:

تمہارے لیے اس کے سوا کوئی مددگار اور سفارشی نہیں، کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے السجدة (4)۔

اور ایک اور مقام پر رب ذوالجلال نے فرمایا:

کون ہے جو اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے البقرة (255)۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے اور مخلوق کے درمیان فرق بیان کیا ہے۔

لوگوں کی عام طور پر عادت ہے کہ وہ اپنے بڑے لوگوں کے پاس اسے سفارشی بنا کر لے جاتے ہیں جس پر وہ کرم کرتا ہو، اور وہ سفارشی اس سے مانگتا ہے تو وہ یا تو رغبت، اور یا ڈرتے ہوئے یا پھر شرم و حیا کرتے ہوئے، یا پھر مودت و محبت کرتے ہوئے اس کی حاجت و ضرورت پوری کر دیتا ہے۔

لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس وقت تک کوئی سفارش کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اسے سفارش کی اجازت نہ دے،

اور پھر سفارشی کرتا بھی وہ کچھ ہے جو اللہ چاہے، اور سفارشی کی سفارش اللہ تعالیٰ کی اجازت اور حکم سے ہو گی، اس لیے سب حکم اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔

اور بہت سے گمراہ لوگوں کا یہ کہنا کہ: یہ مجھ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ قریب ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے دور ہوں، میرے لیے اس واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ کو پکارنا ممکن ہی نہیں، اور اس طرح کی اور مشرکوں جیسی باتیں کرنا، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو فرما رہا ہے:

اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق دریافت کریں تو (کہہ دیجئے) یقیناً میں قریب ہوں، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں البقرة (187) .

اور صحیح بخاری میں ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ایک سفر میں تھے اور وہ بلند آواز سے تکبیرں کہہ رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

" اے لوگو! اپنے آپ پر نرمی کرو، کیونکہ کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے، بلکہ سننے والے اور قریب اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہو۔

اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ہر ایک کو یہ کہنے کا حکم دیا :

ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں الفاتحة (5) .

اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ مشرکین کہتے ہیں:

﴿ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ (بزرگ) اللہ کے قرب تک ہمارے رسائی کرا دیں الزمر (3) .

پھر اس مشرک کو یہ کہا جائے کہ: جب تم اسے پکارو گے تو اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ تمہارے حال کو زیادہ جانتا ہے، اور آپ کے سوال کو پورا کرنے کی زیادہ قدرت رکھتا ہے، یا تم پر زیادہ رحم کر سکتا ہے، یہ تو جہالت اور گمراہی اور کفر ہے۔

اور اگر تم یہ جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ زیادہ علم رکھنے والا، اور یا قدرت رکھنے والا اور زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو پھر تم نے اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کی بجائے کسی اور سے کیوں سوال کرنا شروع کر دیا؟

کیا آپ نے بخاری وغیرہ کی مندرجہ ذیل حدیث نہیں سنی؟

جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پر معاملہ میں استخارہ کرنا اس طرح

سکھاتے جس طرح قرآن مجید کی سورۃ کی تعلیم دیا کرتے تھے...

اور اگر تمہیں یہ علم ہے کہ وہ بزرگ تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں تم سے زیادہ شان و مرتبہ رکھتا ہے، یہ بات تو حق اور صحیح ہے، لیکن اس حق کے ساتھ باطل چاہا گیا ہے، کیونکہ جب وہ آپ سے زیادہ قریب ہے، اور آپ سے زیادہ مرتبہ اور درجہ رکھتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اسے اللہ تعالیٰ اسے آپ سے زیادہ اجر و ثواب دے گا، اس کا معنی یہ نہیں کہ جب آپ اسے پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ تیری حاجت اور ضرورت اس سے زیادہ پوری کرے گا جب آپ اللہ تعالیٰ کو پکارتے اور اس سے سوال کرتے۔

مثال کے طور پر زیادتی اور ظلم و عدوان کی بنا پر اگر آپ سزا اور دعا رد ہونے کے مستحق ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صالح اور نیک شخص اور کوئی بزرگ اس میں مدد نہیں کرتا جسے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہو، اور ایسی اشیاء میں وہ کوشش نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے اور غصہ دلائے، اور اگر ایسا نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ رحمت اور قبول کے زیادہ لائق ہے۔ اھ

دیکھیں: مجموع الفتاوی لابن تیمیۃ (27 / 72 - 75) .

ہم سوال کرنے والے بھائی کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ سابقہ حوالہ جات کو دیکھ کر مزید تفصیل سے مطالعہ ضرور کرے۔